



جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے، تو اس میں سے جو کچھ کھایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے وگا، جو اس میں سے چوری ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے وگا اور اس میں جو شخص بھی کچھ کمی کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے وگا

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے تو اس میں سے جو کچھ کھایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے وگا، جو اس میں سے چوری ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے وگا اور اس میں گر کوئی شخص کچھ کمی کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے وگا“ دوسری روایت میں ہے: ”مسلمان کوئی پودا لگائے اور اس میں سے کوئی انسان، چوپایہ اور پرندہ کھا لے، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے صدقہ ہے وگا“ ایک اور روایت میں ہے: ”جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا فصل بوئے، تو اس میں سے جو بھی انسان یا چوپایہ یا کوئی اور شے کھائے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مسلمان کوئی پودا لگائے یا فصل بوئے اور اس میں سے کوئی جان دار مخلوق کھا لے، تو اسے اس پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وفات کے بعد بھی اس کے عمل کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے، جب تک اس کی کھیتی اور لگایا ہوا درخت باقی رہتا ہے اس حدیث میں کھیتی کرنے اور پودے لگانے کی ترغیب دی گئی ہے کیوں کہ کھیتی کرنے اور پودے لگانے میں بہت سی خیر مضمحلہ ہیں اس میں دینی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی بھی اگر اس میں سے کوئی کھا لے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے وگا اس سے عجیب تر یہ ہے کہ اگر اس میں سے کسی چور نے کچھ چرا لیا، مثلاً کوئی شخص کھجور کے پودے پاس آ کر اس میں سے کھجوریں چرا لے، تو اس کھجور کے مالک کو اس پر بھی اجر ملا گا، اگرچہ اسے اگر اس چور کا پتہ لگ جائے، تو وہ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس چوری کے بدلے میں قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ کا ثواب لکھ دیتا ہے اسی طرح جب کھیتی کو جانور یا کیڑے مکوڑے کھا جائیں، تو یہ بھی صدقہ شمار ہوگا حدیث بالخصوص مسلم کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہی درحقیقت دنیا و آخرت میں صدقہ کے ثواب سے فائدہ اٹھاتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3911>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

